

Pashto (پښتو)

د پیژندنې مراسم

د صلیب نښه

د پلار او زوی په نوم، د روح القدس
په نوم.

آمین

سلام کول

زموږ د رب عیسی مسیح فضل، او د
خدای مینه، او د روح القدس کمونی
له تاسو ټولو سره اوسئ.

او ستاسو د روح سره.

د پنیږ ضد عمل

ورو brothers ه (ورو brothers و
او خوینست)، راکړئ چې مور ته اجازه
راکړئ زموږ گناهونه ومني، او
همداشان خپل ځانونه چمتو کړئ
ترڅو مقدس مریس ولمانځئ.

زه د خدای تعالی خدای ته اقرار یم او
تاسو ته، زما ورو brothers ه او
خویندو، چې ما په کلکه گناه کړې وه،
زما په افکارو او زما په ټکو کې، هغه
څه چې ما کړي دي او هغه څه چې زه
یې په کولو کې پاتې راغلی، زما د
گناه له لارې، زما د گناه له لارې، زما
د خورا لوی خطا له لارې؛ له همدې
امله زه د بیمې مرجان غبروم ټولې
پربښتې او سنتونه، او تاسو، زما ورو
brothers ه او خویندو، زما لپاره
زموږ څښتن خدای ته دعا کوله.

کیدای شي خدای په مور رحم وکړي،
زموږ گناهونه وبخښه، او مور د تل
پاتې ژوند لپاره راوړو.

آمین

کیري

ربه رحم وکړه.

Lithuanian (Lietuvis)

Įvadinės apeigos

Kryžiaus ženklas

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir
Šventosios Dvasios.

Amen

Pasisveikinimas

Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė,
Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios
bendrystė tebūna su jumis visais.

Ir su tavo dvasia.

Gailesčio aktas

Broliai (broliai ir seserys), pripažinkime
savo nuodėmes, Ir taip pasiruoškite
švęsti šventas paslaptis.

Aš prisipažįstu visagaliui Dievui Ir tau,
mano broliai ir seserys, kad aš labai
nusidėjau, Mano mintyse ir mano
žodžiais, Tai, ką padariau, ir to, ko man
nepavyko padaryti, Per mano kaltę, Per
mano kaltę, Dėl mano sunkiausios
kaltės; Todėl klausiu palaimintos
Marijos visur-virgin, Visi angelai ir
šventieji, Ir tu, mano broliai ir seserys,
melstis už mane Viešpačiui, mūsų
Dievui.

Tegul visagalis Dievas pasigailės mūsų,
Atleisk mums savo nuodėmes, Ir
atvesk mus į amžinąjį gyvenimą.

Amen

Kyrie

Viešpatie pasigailėk.

Pashto (پښتو)

رڼه رحم وکړه.
مسیح، رحم وکړه.
مسیح، رحم وکړه.
رڼه رحم وکړه.
رڼه رحم وکړه.
گریارله

د خدای پاک په لوړ ځای کې، او په
ځمکه کې د ښه نیت خلکو ته سوله.
مور ستا ستاینه کوو، مور تاسو ته
برکت ورکوو، مور تاسو سره مینه
لرو، مور ستا ویاړ کوو، مور ستاسو د
لوی جلال لپاره مننه کوو، څښتن
خدای، د آسمان پاچا، ای خدایه، خدایه
پلاره. مالک عیسی مسیح، یوازینی
زوی، څښتن خدای، د خدای وری، د
پلار زوی، تاسو د نړۍ گناهونه لرې
کړئ، پر مور رحم وکړه؛ تاسو د نړۍ
گناهونه لرې کړئ، زموږ دعا ترلاسه
کړئ؛ تاسو د پلار ښې لاس ته ناست
یاست، په مونږ رحم وکړه. یوازې ستا
لپاره مقدس ذات دی، ته یوازې رب
یې، ته یواځې لوی یی عیسی مسیح،
د روح القدس سره، د خدای پلار په
جلال کې. آمین.

راټولول

راځئ چې دعا وکړو.

آمین.

د کلمې تالاري

لومړی لوستل

د څښتن کلمه.
د خدای شکر دی.
وړونکي زېرم
دوهم لوستل
د څښتن کلمه.
د خدای شکر دی.

Lithuanian (Lietuvis)

Viešpatie pasigailėk.
Kristau, pasigailėk.
Kristau, pasigailėk.
Viešpatie pasigailėk.
Viešpatie pasigailėk.
Gloria

Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje
ramybė geros valios žmonėms. Mes
giriame tave, mes laiminame tave,
mes tave dieviname, mes šloviname
tave, dėkojame tau už didžiulę šlovę,
Viešpatie Dieve, dangaus karaliau, O
Dieve, visagalis Tėve. Viešpatie Jėzau
Kristau, Viengimis Sūnų, Viešpatie
Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau, tu
naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk
mūsų; tu naikini pasaulio nuodėmes,
priimk mūsų maldą; tu sėdi Tėvo
dešinėje, pasigailėk mūsų. Juk tu
vienas esi Šventasis, tu vienas esi
Viešpats, tu vienas esi Aukščiausiasis,
Jėzus Kristus, su Šventąja Dvasia,
Dievo Tėvo šlovėje. Amen.

Surinkti

Pasimelskime.

Amen.

Žodžio liturgija

Pirmasis svarstymas

Viešpaties žodis.

Ačiū Dievui.

Atsakomoji psalmė

Antrasis svarstymas

Viešpaties žodis.

Ačiū Dievui.

Pashto (پښتو)

گوسپیل

رب دې درسره وي.

او د خپل روح سره.

د N په وينا د مقدس انجيل څخه

لوستل.

پاک دې وي، ای ربه

د څښتن انجيل.

ستا ستاينه، رب عيسى مسيح.

د باور مسلک

زه په يو خدای باور لرم رب العالمين،
د آسمان او ځمکې جوړونکی، د ټولو
لیدلو او نه لیدلو شیانو څخه. زه په يو
رب عيسى مسيح باور لرم د خدای
يوازینی زوی، د ټولو عمرونو دمخه د
پلار څخه زېږیدلی. د خدای څخه
خدای، له رڼا څخه رڼا، رېښتینی خدای
له رېښتیني خدای څخه زېږیدلی، نه
جوړ شوی، د پلار سره مطابقت لري؛
د هغه له لارې ټول شیان جوړ شوي.
زموږ د نارینه وو او زموږ د نجات
لپاره هغه د آسمان څخه راوتلی، او د
روح القدس په واسطه د ورجن مریم
مجسم شو، او سپری شو. زموږ په
خاطر هغه د پونتيوس پيلاطس لاندې
په صلیب ووژل شو، هغه مړ شو او
بنځ شو او په دریمه ورځ بیا پاڅید د
انجيلونو سره سم. هغه آسمان ته
پورته شو او د پلار بني لاس ته ناست
دی. هغه به بیا په جلال کې راشي د
ژونديو او مړو قضاوت کول او د هغه
سلطنت به پای نه وي. زه په روح
القدس باور لرم، رب، ژوند
ورکوونکی، څوک چې د پلار او زوی
څخه تیرېږي، څوک چې د پلار او زوی
سره مینه او ویاړ لري، چا چې د
پیغمبرانو له لارې خبرې کړې دي. زه
په یوه، مقدس، کاتولیک او رسول
کلیسا باور لرم. زه د گناهونو د

Lithuanian (Lietuvis)

Evangelija

Viešpats tebūna su tavimi.

Ir su savo dvasia.

Šventosios Evangelijos skaitinys pagal N.

Šlovė tau, Viešpatie

Viešpaties Evangelija.

Šlovė tau, Viešpatie Jėzau Kristau.

Tikėjimo profesija

Tikiu į vieną Dievą, visagalis Tėvas,
dangaus ir žemės kūrėjas, visų
matomų ir nematomų dalykų. Tikiu į
vieną Viešpatį Jėzų Kristų, Viengimis
Dievo Sūnus, gimęs iš Tėvo prieš visus
amžius. Dievas nuo Dievo, Šviesa iš
šviesos, tikras Dievas iš tikro Dievo,
gimęs, nesukurtas, su Tėvu susijęs;
per jį viskas buvo sukurta. Dėl mūsų,
vyrų, ir dėl mūsų išgelbėjimo jis
nužengė iš dangaus, ir per Šventąją
Dvasią įsikūnijo Mergelė Marija, ir tapo
žmogumi. Dėl mūsų jis buvo
nukryžiuotas valdant Poncijui Pilotui, jis
mirė ir buvo palaidotas, ir vėl prisikėlė
trečią dieną pagal Šventąjį Raštą. Jis
pakilo į dangų ir sėdi Tėvo dešinėje. Jis
vėl ateis šlovėje teisti gyvuosius ir
mirusiuosius ir jo karalystei nebus
galo. Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį,
gyvybės davėją, kuris kyla iš Tėvo ir
Sūnaus, kuris kartu su Tėvu ir Sūnumi
yra garbinamas ir šlovinamas, kuris
kalbėjo per pranašus. Tikiu viena,
šventa, katalikų ir apaštalu bažnyčia.
Išpažįstu vieną Krikštą nuodėmėms
atleisti ir laikiu mirusiųjų prisikėlimo ir
būsimo pasaulio gyvenimą. Amen.

Pashto (پښتو)

بخښنې لپاره يو بېتسما اقرار كوم او
زه د مړو بيا ژوندي كيدو ته سترگې
په لاريم او د نړۍ راتلونكى ژوند.
آمين.

په زړه پورې

نړيوال لمونځ

مور رب ته دعا كوو.

ربه، زموږ دعا واوړئ.

د اختصاصو تالاري

پيشنهاد

خدای دې د تل لپاره برکت واچوي.

دعا وکړئ، وروڼو (ورونو او خویندو)

چې زما او ستا قرباني خدای ته د

منلو وړ وي د لوی خدای پلار

رب دې قربانۍ په خپل دربار کې

قبولې کړي د هغه د نوم د ستاینې او

ویاړ لپاره، زموږ د ښه لپاره او د هغه

د ټولو مقدس کلیسا ښه.

آمين.

دعا Eucharistic

رب دې درسره وي.

او د خپل روح سره.

خپل زړونه پورته کړئ.

مور دوی رب ته پورته کوو.

راځئ چې د خپل څښتن خدای شکر

ادا کړو.

دا سمه او عادلانه ده.

سپېڅلی، سپېڅلی، سپېڅلی څښتن

خدای. آسمان او ځمکه ستاسو له

جلال څخه ډک دي. حسنه په لوړه

کې. بختور دی هغه څوک چې د څښتن

په نوم راځي. حسنه په لوړه کې.

د ایمان راز.

مور ستا د مرگ اعلان کوو، ای ربه،

او د خپل قیامت دعوه وکړه تر څو

چې تاسو بیا راشئ. یا: کله چې مور

Lithuanian (Lietuvis)

Homilija

Visuotinė malda

Meldžiame Viešpatį.

Viešpatie, išklausk mūsų malda.

Eucharistijos liturgija

Pasiūla

Palaimintas Dievas per amžius.

Melskitės, broliai (broliai ir seserys),
kad mano ir tavo auka gali būti
priimtina Dievui, visagalis Tėvas.

Tegul Viešpats priima auką iš jūsų
rankų jo vardo šlovei ir šlovei, mūsų
labui ir visos jo šventosios Bažnyčios
gėris.

Amen.

Eucharistinė malda

Viešpats tebūna su tavimi.

Ir su savo dvasia.

Pakelkite savo širdis.

Mes pakeliame juos į Viešpatį.

Dėkokime Viešpačiui, savo Dievui.

Tai teisinga ir teisinga.

Šventas, šventas, šventas Viešpats
kareivijų Dievas. Dangus ir žemė pilni
tavo šlovės. Osana aukštybėse.

Palaimintas, kuris ateina Viešpaties
vardu. Osana aukštybėse.

Tikėjimo paslaptis.

Mes skelbiame tavo mirtį, Viešpatie, ir
išpažinti savo Prisikėlimą kol vėl ateisi.

Arba: Kai valgome šią duoną ir

Pashto (پښتو)

دا ډوډ و خورو او دا پيال وخبښئ مور
ستا د مرگي اعلان کوو، ای ربه، تر څو
چې تاسو بیا راشئ. یا: مور وژغوره،
د نړۍ ژغورونکي، ستاسو د صلیب او
قیامت لخوا تاسو مور آزاد کړي یو.
آمین.

د ملګرتیا مراسم

د نجات ورکوونکي په امر او د الهی
تعلیم لخوا رامینځته شوی، مور جرئت
کوو چې ووايو:

زموږ پلار، څوک چې په جنت کې دی،
ستا نوم دې مقدس وي ستا سلطنت
دې راشي ستاسو اراده به ترسره
شي په ځمکه کې لکه څنګه چې په
آسمان کې دی. دا ورځ مور ته زموږ
ورځنډ ډوډ راکړه، او زموږ ګناهونه
معاف کړه لکه څنګه چې مور هغه
کسان بڅښو چې زموږ په وړاندې
سرغړونه کوي. او مور په فتنې کې
مه راګرځوه، مګر مور له شر څخه
وژغورو.

ربه، مور له هر شر څخه وساته، په
مهربانه سره زموږ په ورځو کې سوله
راولي، چې ستا د رحمت په مرسته،
مور ممکن تل له ګناه څخه خلاص شو
او د هر ډول مصیبت څخه په امان لکه
څنګه چې مور د مبارک امید په تمه یو
او زموږ د نجات ورکوونکي عیسی
مسیح راتګ.

د سلطنت لپاره، ځواک او ویاړ ستاسو
دی اوس او د تل لپاره.

رب عیسی مسیح، چا ستا رسولانو ته
ووېل: سوله زه تاسو پرېږدم، زما
سوله زه تاسو ته درکوم، زموږ
ګناهونو ته مه ګوره مګر ستاسو د
کلیسا په باور، او په مهربانه سره
هغې ته سوله او یووالي ورکړي

Lithuanian (Lietuvis)

geriame šią taurę, Mes skelbiame Tavo
mirtį, Viešpatie, kol vėl ateisi. Arba:
Išgelbėk mus, pasaulio Gelbėtojai, už
tavo kryžių ir prisikėlimą jūs mus
išlaisvinote.

Amen.

Komunijos apeigos

Gelbėtojo įsakymu ir sukurti dieviškojo
mokymo, drįstame pasakyti:

Tėve mūsų, kuris esi danguje, teisie
šventas Tavo vardas; ateik tavo
karalystė, bus tavo valia žemėje kaip
danguje. Kasdienės mūsų duonos duok
mums šiandien, ir atleisk mums mūsų
kaltes, kaip mes atleidžiame tiems,
kurie mus nusižengia; ir nevesk mūsų į
pagundą, bet gelbėk mus nuo blogio.

Išgelbėk mus, Viešpatie, nuo visų
blogybių, suteik ramybę mūsų
dienomis, kad tavo gailestingumo
pagalba, mes visada galime būti laisvi
nuo nuodėmės ir saugus nuo visų
nelaimių, kaip laukiame palaimintosios
vilties ir mūsų Gelbėtojo Jėzaus
Kristaus atėjimas.

Už karalystę, galia ir šlovė yra tavo
dabar ir visada.

Viešpatie Jėzau Kristau, kurie pasakė
jūsų apaštalamis: Ramybę aš tau
palieku, savo ramybę duodu tau,
nežiūrėk į mūsų nuodėmes, bet apie
jūsų Bažnyčios tikėjimą, ir maloningai
suteik jai ramybę ir vienybę pagal jūsų

Pashto (پښتو)

ستاسو د ارادې سره سم. څوک چې
ژوند کوي او د تل لپاره پاچاهي کوي.
آمین.

د رب سوله تل ستاسو سره وي.

او د خپل روح سره.

راځئ چې یو بل ته د سولې نښه
وړاندې کړو.

د خدای وری، تاسو د نړۍ گناهونه
لیرې کوئ، په مونږ رحم وکړه. د
خدای وری، تاسو د نړۍ گناهونه لیرې
کوئ، په مونږ رحم وکړه. د خدای
وری، تاسو د نړۍ گناهونه لیرې کوئ،
مونږ ته سوله راکړه.

د خدای وری ته وگوره، هغه ته وگوره
څوک چې د نړۍ گناهونه لرې کوي.
بختور دي هغه څوک چې د میمنې
ډوډ ته بلل شوي دي.

ربه، زه د دې وړ نه یم چې ته زما د
چت لاندې ننوځي مگر یوازې کلمه
ووايه او زما روح به روغ شي.

د مسیح بدن (وینه).

آمین.

راځئ چې دعا وکړو.

آمین.

پای ته رسیدل

برکت

رب دې درسره وي.

او د خپل روح سره.

لوی خدای دې تاسو ته برکت درکړي،
پلار، زوی، او روح القدس.

آمین.

گوبنه کول

لاړ شه، ماس پای ته ورسید. یا: لاړ
شئ او د څښتن انجیل اعلان کړئ. یا:
په سوله کې لاړ شئ، د خپل ژوند په

Lithuanian (Lietuvis)

valią. Kurie gyvena ir viešpatauja per
amžius.

Amen.

Viešpaties ramybė tebūna su jumis
visada.

Ir su savo dvasia.

Siūlome vieni kitiems taikos ženklą.

Dievo avinėli, tu naikini pasaulio
nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo
avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, tu
naikini pasaulio nuodėmes, duok
mums ramybę.

Štai Dievo Avinėlis, štai Tą, kuris
naikina pasaulio nuodėmes. Palaiminti
pašauktieji Avinėlio vakarienei.

Viešpatie, aš nevertas kad tu įeitum po
mano stogu, bet tik tark žodį ir mano
siela bus išgydyta.

Kristaus Kūnas (Kraujas).

Amen.

Pasimelskime.

Amen.

Baigiamosios apeigos

Palaiminimas

Viešpats tebūna su tavimi.

Ir su savo dvasia.

Telaimina tave visagalis Dievas, Tėvas,
ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.

Amen.

Atleidimas iš darbo

Pirmyn, Mišios baigtos. Arba: Eik ir
skelbk Viešpaties Evangeliją. Arba: Eik

Pashto (پښتو)

واسطه د خښتن ستاينه وکړئ. يا: په
سوله کې لار شه.
د خدای شکر دی.

Lithuanian (Lietuvis)

ramybėje, savo gyvybe šlovink
Viešpatį. Arba: eik ramiai.
Ačiū Dievui.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC